



سوال

(421) قربانی کے عیوب

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

وہ کون کون سے عیوب ہیں جن کی موجودگی میں جانور قربانی کے قابل نہیں رہتا، قرآن و حدیث کے دلائل سے ان کی نشاندہی کریں؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

قربانی کے جانور میں عیوب پائے جاتے ہیں، ان کی دو اقسام ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے:

(الف) ایسے عیوب جن کی موجودگی میں جانور قربانی کے قابل نہیں رہتا وہ یہ ہیں:

کانا پن جو بالکل نمایاں ہو، اگر جانور بالکل اندھا ہے جسے نظر ہی نہیں آتا تو بالاولیٰ قربانی کے طور پر ذبح نہیں کیا جاسکتا۔

ایسا بیمار جس کی بیماری ظاہر اور نمایاں ہو، اگر معمولی بیمار ہے تو اسے قربانی کے طور پر ذبح کیا جاسکتا ہے۔

لنگڑا پن جو بالکل نمایاں ہو، اگر جانور کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہے یا ٹوٹی ہوئی ہے وہ بھی قربانی کے لائق نہیں۔

ایسا کمزور اور لاغر جانور جس میں کمزوری کی وجہ سے گودا وغیرہ نہ ہو۔

ان چار عیوب کے متعلق احادیث میں صاف وضاحت ہے کہ ان کی موجودگی میں جانور قربانی کے قابل نہیں رہتا۔ [1]

جس جانور کے کان کٹے ہوئے ہوں یا سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں وہ بھی قربانی کے طور پر ذبح نہیں کئے جاسکتے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ہمیں حکم دیتے تھے کہ قربانی کرتے وقت جانور کی آنکھیں اور کان بنورہ کھ لیا کریں۔ [2]

کچھ عیوب ایسے ہیں کہ ان کی موجودگی میں جانور بطور قربانی ذبح کیا جاسکتا ہے وہ حسب ذیل ہیں:

(ب) وہ جانور جس کے تھن مرے ہوئے ہوں، وہ جانور جن کی ڈم کٹی ہوئی ہو۔ وہ جانور جن کی ناک کٹی ہوئی ہو۔ وہ جانور جن کے دانت نہ ہوں۔ وہ جانور جو مخنث ہوں،



اگرچہ جاہل لوگ اس قسم کے جانور کو ”بزرگ“ خیال کرتے ہیں، اسے گوشت کے لئے ذبح کرنے سے بھی گریز کرتے ہیں، لیکن شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں، اسی طرح وہ جانور جس کے سینگ پیدائشی نہ ہوں، اسے بھی قربانی میں ذبح کیا جاسکتا ہے۔ (واللہ اعلم)

[1] مسند احمد ص ۲۸۴ ج ۳۔

[2] مسند احمد ص ۹۵ ج ۱۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ اصحاب الحدیث

جلد 4 - صفحہ نمبر: 369

محدث فتویٰ